

انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتب نبی ﷺ نے ایک آدمی کو اس طرح دعا کرتے ہوئے سنا:

انسان بن مالک (اللہ ان پر پراسنن ہو) نے کہا کہ پائونبر (اللہ ان کی شانتی اور آशीرवाद ان پر ہو) نے اک بار اک آادمی کو دوآ کرتے هए सुना:

Anas bin Malik (may Allah be pleased with him) said that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) once heard a man supplicating:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ الْمَنَانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

اے اللہ بے شک میں تجھ سے مانگتا ہوں (اس وسیلے سے) کہ ساری حمد تیرے لیے ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے تیرا کوئی شریک نہیں۔ اے بہت زیادہ احسان کرنے والے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، جلال اور اکرام والے!

تو نبی ﷺ نے مندرمایا یقینا تو نے اللہ سے اس کے اس اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگی ہے کہ جب اس کے ذریعے دعا مانگی جائے تو وہ اسے قبول کرتا ہے اور جب اس کے ذریعے سوال کیا جائے تو وہ عطا کرتا ہے۔ (مسند احمد 12206)

اے اللہ! میں توझसे (इस माध्यम से) पूछता हूँ कि सारी प्रशंसा तेरे लिए है, तेरे सिवा कोई पूज्य नहीं, तू अकेला है, तेरा कोई साझी नहीं। तू आकाशों और धरती का रचयिता, अत्यन्त कृपाशील, अत्यन्त महिमावान है!

पैगंबर (ﷺ) ने कहा, "तुमने अल्लाह से उसके महान नाम से दुआ मांगी है, जिसके माध्यम से जब दुआ मांगी जाती है, तो वह उसे स्वीकार करता है, और जब इसके माध्यम से कोई अनुरोध किया जाता है, तो वह उसे स्वीकार करता है।" (मुस्नद अहमद (12206))

O Allah, I ask You (through this means) that all praise is for You, there is no god but You, You are alone, You have no partner. The Creator of the heavens and the earth, the Most Gracious, the Most Glorious!

The Prophet (ﷺ) said, "You have indeed supplicated to Allah by His Greatest Name, by which when supplication is made through it, He accepts it, and when a request is made through it, He grants it." (Musnad Ahmad (12206))